

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن جون کے مہینے میں ہیریٹیج منتھ کو ورچوئل طور پر منا رہا ہے

برامپٹن، آن (1 جون 2021) – سٹی آف برامپٹن جون کے مہینے میں ورچوئل طور پر اپنے کثیر الثقافتی خوبصورت تنوع کو خراج تحسین پیش کرے گا اور اپنی اطالوی، پرتگالی اور فلپائن کمیونٹیز کی خدمات کا بطور خاص اعتراف کیا جائے گا اور اس کے علاوہ نیشنل انڈیجینس پیوپلز منتھ کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔

### اٹالین ہیریٹیج منتھ

اٹالین ہیریٹیج منتھ کا آغاز بروز بدھ 2 جون سے ہو رہا ہے چونکہ 2 جون کو اٹالین نیشنل ڈے بھی منایا جا رہا ہے، جس میں پرچم کشائی کی تقریب ورچوئل طور پر منعقد کی جائے گی اور اس میں میئر پیٹرک براؤن، پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلرز، وارڈز 7 اور 8، اور مائیکل پیلیسچی، ریجنل کونسلر، وارڈز 2 اور 6 کی جانب سے خصوصی پیغامات جاری کیے جائیں گے۔ تاریخ اور شاندار ماضی پر روشنی ڈالی جائے گی اور کہانوں کی دو روایتی ترکیبیں (میٹھا اور مصالحے دار) بھی پیش کی جائیں گی جبکہ ماضی کے واقعات پر مبنی ایک فوٹو گیلری بھی اس کا حصہ ہو گی۔

حالیہ ترین مردم شماری کے مطابق اطالوی لوگوں کا شمار برامپٹن کے ٹاپ 10 نسلی پس منظروں میں ہوتا ہے اور یہاں پر 25,200 اطالوی باشندے آباد ہیں۔

تقریب میں شامل ہونے کے لیے، براہ کرم [www.brampton.ca/italianheritagemonth](http://www.brampton.ca/italianheritagemonth) ملاحظہ کریں۔

### پورچگیز ہیریٹیج منتھ

پورچگیز ہیریٹیج منتھ کا آغاز بروز جمعرات 10 جون سے ہو رہا ہے چونکہ 10 جون کو 'دی ڈے آف پرتگال' کے طور پر منایا جا رہا ہے، جس میں پرچم کشائی کی تقریب ورچوئل طور پر منعقد کی جائے گی اور اس میں میئر پیٹرک براؤن، بمعہ مارٹن میڈیروس ریجنل کونسلر وارڈز 3 اور 4، اور پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5 کی جانب سے خصوصی پیغامات بھی جاری کیے جائیں گے۔ تاریخ اور شاندار ماضی پر روشنی ڈالی جائے گی اور کہانوں کی دو روایتی ترکیبیں (میٹھا اور مصالحے دار) بھی پیش کی جائیں گی جبکہ ماضی کے واقعات پر مبنی ایک فوٹو گیلری بھی اس کا حصہ ہو گی۔

حالیہ ترین مردم شماری کے مطابق پرتگالی لوگوں کا شمار برامپٹن کے ٹاپ 10 نسلی پس منظروں میں ہوتا ہے اور یہاں پر 24,500 پرتگالی باشندے آباد ہیں۔

تقریب میں شامل ہونے کے لیے، براہ کرم [www.brampton.ca/portugueseheritagemonth](http://www.brampton.ca/portugueseheritagemonth) ملاحظہ کریں۔

### فلپینو ہیریٹیج منتھ

فلپینو ہیریٹیج منتھ کا آغاز بروز ہفتہ، 12 جون سے ہو رہا ہے اور یہ اس تاریخ کی یاد تازہ کرے گا جب 1898 میں فلپائن کا جھنڈا پہلی مرتبہ بلند کیا گیا تھا۔ پرچم کشائی کی تقریب ورچوئل طور پر منعقد کی جائے گی اور اس میں میئر پیٹرک براؤن اور روینہ سینٹوس، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5 کی جانب سے خصوصی پیغامات بھی جاری کیے جائیں گے۔ پہلے سے ریکارڈ شدہ فلپائن کے قومی ترانے کا لطف اٹھائیں اور فلپائن کے عظیم ترین ہیروز میں سے ایک ڈاکٹر جوس پروٹیشیو رزال کے نام پر وقف کردہ [شمال مشرقی برامپٹن](#) میں ایک پارک کا نام بدلنے کی ویڈیو بھی ملاحظہ کریں۔ تاریخ اور شاندار ماضی پر روشنی ڈالی جائے گی اور کہانوں کی دو روایتی ترکیبیں (میٹھا اور مصالحے دار) بھی پیش کی جائیں گی جبکہ ماضی کے واقعات پر مبنی ایک فوٹو گیلری بھی اس کا حصہ ہو گی۔

حالیہ ترین مردم شماری کے مطابق فلپائن لوگوں کا شمار برامپٹن کے ٹاپ 10 نسلی پس منظروں میں ہوتا ہے اور یہاں پر 20,100 فلپائنی باشندے آباد ہیں۔

تقریب میں شامل ہونے کے لیے، براہ کرم [www.brampton.ca/filipinoheritagemonth](http://www.brampton.ca/filipinoheritagemonth) ملاحظہ کریں۔

### نیشنل انڈیجینس ہسٹری منتھ

جون میں، ہم نیشنل انڈیجینس ہسٹری کا مہینہ کیٹیڈا میں فرسٹ نیشنز، انوائٹ اور میٹیز لوگوں کی تاریخ، تنوع اور ان کی شاندار خدمات کے اعتراف اور ان کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے لیے مناتے ہیں۔

سٹی آف برامپٹن نے اس بات کا اعتراف کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ ہمارے کام کا انحصار مسی ساگا کے کریڈٹ فرسٹ نیشن کے ٹریڈی ٹیریٹری (زیر معاہدہ علاقہ) پر ہوتا ہے اور ان سے پہلے ہاؤڈینوسوینی (ہاؤڈی-نو سوینی) کا روایتی علاقہ، ہورون اور اویندات (اوین-دات) پر ہوتا تھا۔ ہم بہت ساری پہلی اقوام، میٹیس، انیوٹ اور دیگر عالمی آبائی لوگوں کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں جو اب برامپٹن کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ ہمیں اس زمین پر رہنے، کام کرنے اور لطف اندوز ہونے کا شرف حاصل ہے۔

یہ مہینہ ایک ایسا موقع ہے جس سے مستفید ہوئے ہم آبائی لوگوں کے ورثہ، متعدد ثقافتوں، مخصوص زبانوں اور ان کے روحانی عقائد کے علاوہ ہماری ترقی میں ان کی غیر معمولی شراکت (ماضی اور حال میں بھی) کے بارے میں غور کرنے اور ان کے بارے میں جاننے کا ایک نادر موقع حاصل کرتے ہیں جو ہماری کمیونٹی کو روز بروز مزید تقویت بخش رہے ہیں۔

ہم ان لوگوں کی یاد بھی مل کر مناتے ہیں جو نظام میں موجود خرابیوں کی وجہ سے ہونے والی ناانصافیوں کی وجہ سے تکالیف میں مبتلا رہے یا انہوں نے اپنی زندگیوں کو کھو دیا ہے اور ہم ان 215 بچوں کے ضیاع کا ماتم بھی کرتے ہیں جن کی باقیات کو اس سال کامپوس میں ایک رہائشی اسکول کے مقام پر دریافت کیا گیا تھا۔ ہم یہاں کے آبائی لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مفاہمت کے عمل کو پروان چڑھانے کے عزم کو تقویت دیتے ہیں۔

سٹی آف برامپٹن ایسی ثقافتی تقریبات اور ان کی اہمیت اور مقدس نوعیت کو تہ دل سے تسلیم کرتا ہے۔ چونکہ اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری تمام تقریبات مختلف انداز میں منعقد کی جا رہی ہیں، سٹی 21 اگست بروز پیر کو نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے کا جشن ورجونل طور پر منانے کے لیے پرعزم ہے، جس سے ہمیں ان کے تجربات کے بارے میں جاننے، ان کی منفرد ضروریات پر غور کرنے، ان کا مؤقف سننے اور ان کی آوازوں اور داستانوں پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔

نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے کی خوشیاں منانے کا آغاز ورجونل طور پر پرچم کشانی کی تقریب سے ہو گا اور اس کے بعد کراؤن لینڈز کی جانب سے ایک دلکش پرفارمنس کا مظاہرہ بھی پیش کیا جائے گا۔ مسی ساگا آف نیو کریڈٹ کی جانب سے چیف آر سٹیسی لافورمے کی طرف سے اراضی کا ایک اعتراف ہو گا؛ ایک دعوتی پلیٹ کا اہتمام کیا جائے گا؛ ٹریسی وانٹے کے ساتھ ایک ورجونل اسٹراٹیری مون ٹینجنگ اور بزرگ افراد کے طور پر جباکوے؛ اور جوائس نیوونڈنگ کی جانب سے روایتی کارن سوپ بنانے کا طریقہ بھی پیش کیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے [www.brampton.ca/NIPD](http://www.brampton.ca/NIPD) ملاحظہ کریں۔

صوبہ اونٹاریو کی منسٹری آف ہیلتھ اور ریجن آف پبلک ہیلتھ کی جانب سے کووڈ-19 کے حوالے سے جاری کیے جانے والے احکامات اور رہنما ہدایات کی روشنی میں اس سال جون کے مہینے کی تمام تقریبات ورجونل طور پر ہی منعقد کی جائیں گی۔

### اقتباسات

"اس جون کے مہینے میں، ہم اپنے ناقابل یقین حد تک متنوع شہر کی متحرک کمیونٹیوں کے تعاون کی اہمیت کو تسلیم کریں گے اور ان کی خوشیاں منائیں گے۔ ہم سب لوگوں کو شامل کرنے کے مقصد کے تحت ایک ایسا فریم ورک بنانے کے لیے کئی مختلف ثقافتی پروگراموں کی حمایت کرتے ہیں جو ہمارے شہر میں تنوع کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"جائے کار اور کمیونٹی، دونوں جگہوں پر برامپٹن کی میونسپلٹی کے لیے تنوع اور سب لوگوں کی وابستگی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ تقریبات رہائشیوں کے لیے دوسری ثقافتوں کے بارے میں جاننے اور ہمارے شہر کو بنانے والے کئی کمیونٹیز سے واقف ہونے کا بہترین موقع ہیں۔"

- برکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"اس سال کے ورثہ کے مہینے کی تقریبات کے دوران، ہم فلپائن کے سب سے بڑے ہیرو ڈاکٹر جوس پروٹیشیو رزال کے نام پر برامپٹن کے ایک پارک کو وقف کر رہے ہیں۔ برامپٹن میں منتخب ہونے والے پہلی فلپائن کی حیثیت سے، میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ اس پارک کا اشتراک کرنے پر پرجوش ہوں اور انتہائی فخر محسوس کرتی ہوں۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ہم ورثہ کا مہینہ مناتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس کر رہے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ کام کی جگہ میں تنوع اور شمولیت ہماری تنظیم میں ایسے نئے نقطہ ہائے نظر لاتی ہے جو عوام کی خدمت کے لیے اپنی کمیونٹی کی ضروریات کے بارے میں جاننے کے حوالے سے ہماری سمجھ بوجھ میں اضافہ کرتے ہیں۔"

- ٹیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن



## Media Release

جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)